



## تنظیمِ اسلامی

11- جنوری 2019ء

## پریس ریلیز

لاہور (پ ر) مغرب GSP پلس کی آڑ میں ہماری معاشرتی اقدار کے درپے ہے۔ یہ بات تنظیمِ اسلامی کے امیر حافظ عاکف سعید نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے اس حوالے سے جو شرائط رکھی ہیں ان میں سے اکثر کا تجارت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یورپ ہماری معاشی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں ابلسی ثقافت کو فروغ دے کر ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان پر امریکی دباؤ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان پہلے ہی افغانستان میں بے جا مداخلت کا ارتکاب کر کے بہت نقصان اٹھا چکا ہے اور اس کا صلہ بھی امریکہ کی طرف سے میٹل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ اپنی ناکامی کا الزام بھی پاکستان پر لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ اپنی جنگ ہار رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی مسلمان بھائیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ان کی فتح کو شکست میں بدلنے کی امریکی تدبیروں کا ساتھ دے کر مستقبل میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں۔

الوسبعہ حزر  
(ایوب بیگ مرزا)

ناظم نشر و اشاعت تنظیمِ اسلامی  
0321-4893436

جاری کردہ



# TANZEEM-E-ISLAMI

PRESS RELEASE: 11 January 2019



**“The West is hell-bent on destroying our social and cultural values by sinisterly using the GSP Plus status as a tool.”**

**(Hafiz Aakif Saeed)**

**Lahore (PR): “The West is hell-bent on destroying our social and cultural values by sinisterly using the GSP Plus status as a tool.”**

This was said by the Ameer of Tanzeem-e-Islami, **Hafiz Aakif Saeed**, in a statement. The Ameer noted that most of the conditions placed as prerequisites by the European Union in this regard had nothing to do with trade or economic activity. He added that the fact of the matter is that Europe wanted to extinguish the values of social life in Pakistan by promoting an evil and satanic culture, and was using our beleaguered economic conditions as the way in.

While commenting on the U.S. pressure on Pakistan regarding the Afghan Taliban, the Ameer remarked that Pakistan should stay distant from the entire matter, as Pakistan had already suffered great loss due to unwarranted meddling in the affairs of Afghanistan and we had been ‘rewarded’ by the U.S. for that in such a humiliating manner that not only did the U.S. not acknowledge our role in the region but also laid the blame for its own defeat in Afghanistan on Pakistan. The Ameer reiterated that the U.S. was losing its war in Afghanistan. He concluded by advising that we ought to try and nurture good relations with the Muslim brethren living in our neighborhood, instead of trying to convert their victory into defeat at the behest and due to the duplicity of USA so that we could avoid problems for our own country in the future.

**Issued by**  
**Ayub Baig Mirza**  
**Nazim of Press and Publications Section**  
**Tanzeem-e-Islami, Pakistan**